

قَالَ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ

۱ نکی قوم میں سے جوڑا بننا چاہتے تھے اُنکے سرداروں نے

قَوْمِهِ لَخَرَجْنَاكَ يَشْعِبَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ

کہا کہ اے شعیب ہم تمکو اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں انکو

مِنْ قَرَبِينَا وَلِنَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولَئِكَ نَا

اپنے گاؤں سے فرود نکال دینگے یا تم بھی ہمارے مذہب میں پلٹ آؤ (حضرت شعیبؑ نے جواب دیا) آیام

كَارِهِينَ ۝ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لَنْ نَأْتِي

پلٹ آئیں) گو ہم نفرت کرتے ہوں اگر تم ہماری ملت میں لوٹ آئیں بعد اسکے کہ اللہ

فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اذْجَبْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ

ہکو اُس سے نجات دیکھا ہے تو ضرور ہم خدا پر چھوڑا ہوا بتان باندھنے والے ہو اور ہکو

لَنَا اَنْ نَعُودَ فِيهَا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ

ہو گیا گیا ہے کہ ہم اس دین میں لوٹ آئیں سو اسکے کہ ہمارے پروردگار کی خواہش یوں ہی ہو۔ ہمارے

رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا فَتَمَّ

پروردگار کا علم ہر چیز پر عاوی ہے اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اسے ہمارے پروردگار تو ہمارے

بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۝

ماہن اور ہماری قوم کے ماہن حق کے ساتھ فیصلہ فرماوے اور تو (ہی) سب سے بہتر فیصلہ فرمایا ہے

وَقَالَ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَبِئْسَ

اور ۱ نکی قوم میں سے جو کافر ہو گئے تھے اُنکے سرداروں نے یہ کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی

شَعْبًا اَتَكْفُرُوْنَ اِذْ الْخٰسِرُوْنَ ۝ فَاخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةُ

تو اس صورت میں تم بھی یقیناً نقصان اٹھائیے اور ان میں سے ہر جاوے کے پھر انکو زلزلے نے آیا اور

فَاَصْبَحُوْا فِي دَارِهِمْ جَثِيْنًا ۝ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا

وہ اپنے گمروں میں جیلے کے بنے رہ گئے جنہوں نے شعیب کی تکذیب

اللہ کے نام سے پڑھا کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ تم کو اس کی سزا سے محفوظ رکھے اور تم کو اس کی رحمت سے بہرہ مند کرے۔

مع

اللہ کے نام سے پڑھا کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ تم کو اس کی سزا سے محفوظ رکھے اور تم کو اس کی رحمت سے بہرہ مند کرے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

الاعراف

۲۵۸

قال ملا

شَعِيبًا كَانَ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا الَّذِينَ كَذَبُوا شَعِيبًا

کی تھی وہ ایسے برباد ہو گئے گویا بھی آبادی نوسے تھے جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا

كَانُوا هُمُ الْخَيْرِينَ ۝ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ

نقصان اٹھانے والے وہی ہوے پس شعیب نے گردان پھرا اور فرماتے لگے کہ اے میری قوم

لَقَدْ اَبْلَغْتُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَنَحْتُمْ لَكُمْ فَكَيْفَ

میں نے تمکو اپنے پروردگار کے پیغام یقیناً پہنچا دئے اور تمہیں نصیحت بھی کی تو اب منکر لوگوں

اِنْسِي عَلَى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝ وَمَا اَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ

کے لئے رنج کیا کروں اور جنے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا

نَبِيٍّ اِلَّا اَخَذْنَا اَهْلَهَا بِالْبَاسِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ

مگر یہ کہ (جب اسکا انکار کیا تو) وہاں کے باشندوں کو افلاس و مرض میں (بھی) گرفتار کیا تاکہ انکے

يَضُرُّعُونَ ۝ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ

دل نرم ہوں اور وہ روئین زمین (اگر وہ روئے دھوئے تو) پھر جتنے اہل بلا کو عافیت سے بدل (بھی) ہوا

حَتَّىٰ عَفَّوْا وَقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَاءُنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ

یانتک کہ وہ خوب بڑھے اور کھنے لگے کہ ہمارے باپ داداؤں پر نصیبتیں اور رحمتیں (سب ہی کھیں) گزری

فَاَخَذْنَا هُمْ بِغَتَّةٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ وَلَوْ اَنَّ

ہیں پھر جتنے انکو یکایک ایسے حال میں کہ وہ بچنے دھر پکڑا اور اگر بستیوں والے

اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتْنٰ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ

ایمان لے آتے اور ڈرتے رہتے تو ہم انپر آسمان و زمین

مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَبُوْا فَاحْذَرُوْهُمْ

کی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا پھر جتنے بھی جسی (جیسی)

كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝ اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اِنْ يَّاتِيَهُمْ

پر بیان وہ کیا کرتے تھے اسی کے بوجب اسنے مواخذہ کیا۔ کیا گاون و اس کی چون ہو گئے ہیں کہ ہمارے

طاری ہوتا ہے کبھی بیماری ایسا ہی ہمارے باپ دادا پر بھی کبھی اتفاق پڑا تھا مگر انہوں نے باوجود اپنے افلاس

یہ کہ نہتوں کی لڑتے نے انکو ایسا جھٹلایا تھا کہ انہوں نے شکر خداجھوڑ دیا تھا ذکر خدا بھول گئے اور یہ کہنے لگے تھے کہ یہ زمانہ کی عادت ہے کہ لوگوں کو بھی افلاس

شکر

۱۱ - حج - ۱۱





لَا تَكْفُرُوا بِالَّذِينَ دُونَكُمْ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخَافُونَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

قال آگے (تم) ہرکو کچھ صلہ بھی ملیگا؟ اُسے کہا ہاں (لیکن) اور تم مقررین دریا سے بھی ضروری

الْمُقَرَّبِينَ ۝ قَالُوا يَمْوَسَّىٰ اِمَّا نَ تُلْقِي وَ اِمَّا نَ تَكُونُ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ۝ قَالَ اَلْقُوا فَلَمَّا اَلْقَوْا

ہو جاؤ گے (جادوگ) بولے کہ اے موسے تو اب تم ڈالتے ہو یا ہم ہی

تَكُونُ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ۝ قَالَ اَلْقُوا فَلَمَّا اَلْقَوْا

ڈالنے والے نہیں (موتے نے) فرمایا کہ (تم ہی) ڈالو پس جب انہوں نے ڈالا

سَكَّرَ وَاَعْيَنَ النَّاسَ وَاَسْرَهَبَهُمْ وَجَاءُ وَاَسْرَهَبَهُمْ وَجَاءُ وَاَسْرَهَبَهُمْ وَجَاءُ

تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور اُنکو ڈرایا اور بہت بڑا جادو

سَكَّرَ وَاَعْيَنَ النَّاسَ وَاَسْرَهَبَهُمْ وَجَاءُ وَاَسْرَهَبَهُمْ وَجَاءُ

لا موجود کیا اور ہنسنے موسے کی طرف وحی کی کہ تم بھی اپنا عصا ڈال دو

فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ

پس دیکھتے کیا ہیں کہ جو کچھ ڈھکوسلا انہوں نے بنا رکھا تھا وہ معطل ہو کر بکھوٹے چلا جاتا ہے۔ پس اس طرح حق ہی حق

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَغَلَبُوا هَنَالِكَ وَانْقَلَبُوا

غلبت ہو گیا اور جو عمل وہ کر رہے تھے وہ سب باطل ہو گیا۔ پس جادو گر وہیں کے وہیں مغلوب اور ذلیل

صَغِيرِينَ ۝ وَالْقَى السَّكْرَةَ سَاجِدِينَ ۝ قَالُوا اٰمَنَّا

ہو کر رہ گئے اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم عالموں

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝ قَالَ

کے پروردگار پر جو موسے اور ہارون کا پروردگار ہے ایمان لائے فرعون نے

فَرَعُونَ اٰمَنْتُ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّ هٰذَا

کہا کہ تم ابھی قبل اسکے کہ میں تمہیں اجازت دوں ایمان لے آئے ضرور یہ تمہاری کوئی

لَمَكْرٌ مَّكْرَتُمْوَاهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِيُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا

جان ہے جو تم اس شہر میں بچے ہو کہ اس شہر کے باشندے تمکو یہاں سے نکال دو

Handwritten marginal notes at the top of the page.

Vertical handwritten marginal notes on the left side of the page.



Handwritten marginal notes at the bottom of the page.







ادْعُ لِنَارِكَ بِمَا عٰهَدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا

ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے بوجب اس عہد کے جو اُس نے تمہیں کیا ہے دعا کرو۔ اگر تم نے عذابِ اسی دور

الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

کر دیا تو ضرور ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ ضرور ہی بھیجیں گے

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ آجَلٍ هُم بِالْغُوهِ إِذْ هُم

بہر جب ہم اُن سے عذاب کو ایک مدت تک کے لئے ہٹا لیتے تو وہ اُس مدت کے پورا ہونے سے پہلے پہل

يَنكثُونَ ۚ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ

پھر بدعتی کرتے آخر چنے اُن سے بدلہ لیا اور اس بات کے عوض میں کہ وہ ہماری آیتوں

بِأَنفُسِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غٰفِلِينَ ۚ وَأَوْرَثْنَا

گو ٹھٹھلایا کرتے تھے اُنکو سزاؤں میں ڈبو دیا حالانکہ وہ اس عوض لینے (کے خیال) سے غفل تھے اور چنے

الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضِعُّونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ

اُس قوم کو جو ضعیف کر دی گئی تھی اُس زمین کے اس سرے سے اُس سرے تک کا مالک

مَغَارِبِهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ

بنادیا جس میں اُنکو برکت بھی دی اور بنی اسرائیل کے حق میں بوجہ اُنکے صبر کے

الْحَسَنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ بِمَا صَبَرُوا ۚ وَوَدَّ قَوْمَنَا

تمہارے رب کا اچھا (اور سچا) وعدہ پورا ہو گیا اور فرعون اور اُسکی

مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

قوم جو کچھ بنایا اور بلند کیا کرتی تھی وہ سب کچھ چنے برباد کر دیا

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْيَمَّ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ

اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر پار لے گئے اور وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے

يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ ۚ قَالُوا يَا مَوْسَىٰ اجْعَلْ

جو اپنے بتوں کی عبادت براڑے ہوئے تھے (تو اسوقت) بولے کہ اے موسیٰ تمہارے لئے بھی

لعلہ

ربع



لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۝

ایک ایسا ہی معبود بنا دیجیے جیسے ان کے کئی کئی معبود ہیں (موتے نے اسے فرمایا) یقیناً تم جاہل لوگ ہو

إِنَّ هُوَ إِلَّا مَتَابِرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَيَبْطُلُ مَا كَانُوا

یہ لوگ جس دین میں ہیں وہ ضرور تباہ ہو نہوا لہے اور ان کے کل اعمال اکارت

يَعْمَلُونَ ۝ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ

ہو نہوا لے ہیں (یہ بھی) فرمایا کہ کیا میں تمہارے لئے خدا کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں گا لاکھوں ایسا ہے کہ

فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ

انہے مخلوق تمام عالموں پر فضیلت دی ہے اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے تمکو فرعون النون کے ہم

فِرْعَوْنَ يُسْؤِمُونَ كُفْرًا سَاءَ الْعَذَابُ يُقْتَلُونَ

سے نجات دی تھی جو تمکو بڑے سے بڑے عذاب دیا کرتے تھے (یعنی) تمہارے بیٹوں کو

أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَكْبِرُونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذَلِكَ بَلَاءٌ

قتل کیا کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے

مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ

بڑی سخت آزمائش تھی اور ہم نے موسیٰ سے تیس شبوں کا وعدہ

لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَا بِعَشْرِ فِتْنَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ

کیا تھا اور ایک عشرہ اور طاکر اُسکو پورا کیا پس اُسکے پروردگار کی مقررہ مدت پانچ عین

لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي

پوری ہوئی اور سوئے نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری قوم میں میرے خلیفہ

قَوْمِي وَأَصِلْهُ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۝

بنو اور اصلاح کرتے رہو اور مفسدون کی راہ کی پیروی نہ کرنا

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ۚ قَالَ

اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر آئے اور اُسکے پروردگار نے اسے باتیں کہیں (موتے نے) عرض کی کہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۰۰

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَذَعَرْتَهُ يَذَّكَّرُ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عَلَمٌ سَلِيمٌ  
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَذَعَرْتَهُ يَذَّكَّرُ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عَلَمٌ سَلِيمٌ  
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَذَعَرْتَهُ يَذَّكَّرُ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عَلَمٌ سَلِيمٌ  
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَذَعَرْتَهُ يَذَّكَّرُ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عَلَمٌ سَلِيمٌ  
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَذَعَرْتَهُ يَذَّكَّرُ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عَلَمٌ سَلِيمٌ  
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَذَعَرْتَهُ يَذَّكَّرُ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عَلَمٌ سَلِيمٌ  
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَذَعَرْتَهُ يَذَّكَّرُ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عَلَمٌ سَلِيمٌ  
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَذَعَرْتَهُ يَذَّكَّرُ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عَلَمٌ سَلِيمٌ  
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَذَعَرْتَهُ يَذَّكَّرُ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عَلَمٌ سَلِيمٌ  
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَذَعَرْتَهُ يَذَّكَّرُ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عَلَمٌ سَلِيمٌ

قال المصنف ۲۶۶ الاعراف

رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرِنِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ

اوی میری پروردگار تو مجھے دکھلا د کہ میں تجھے دیکھ لوں فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکا و لیکن پہاڑ کی طرف

إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي فَلَمَّا

نظر کر اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا یا تو آئندہ تو مجھے دیکھ لے گا پس جو وقت

تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّمُوا سِي صَعِقَاءَ

اُسکے پروردگار (یعنی اُسکا پیدا کیا ہوا اور پہاڑ (والوں) کی کوئی جلوہ افروز ہوا تو اُسکے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور روئے

فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ

نفس کھاکر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے۔ کہنے لگے۔ تیری ذات منتر ہے میں تیری ہی حضور میں توبہ کرتا ہوں

الْمُؤْمِنِينَ ۝ قَالَ يَمُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى

لوگوں میں (اس بات پر کہ تو دیکھا نہیں جاسکتا) سب سے پہلا ایمان لایا اور اہلوں۔ فرمایا اے موسیٰ تیرے میں سے تم کو اپنی

النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَارِمْيُ فَخَذَّ مَا اتَيْتُكَ وَكَانَ

رسالت اور اپنے کلام کے لئے کل آدمیوں کو منتخب کر لیا ہے پس جو کچھ میں تم کو دیا ہے اُسے لو اور

مِّنَ الشَّاكِرِينَ ۝ وَكُتِبَ لَهُ فِي الْأَكْوَابِ مِنْ كُلِّ

شکر گزار رہو اور چنے لوگوں میں اُسکے لئے نصیحت کی ہر بات اور ہر چیز کی تفصیل

شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخَذَهَا بِقُوَّةٍ

لکھدی تھی اور اُسکو یہ حکم دیا تھا کہ اُسکو مضبوط ہو کر لو اور اپنی

وَأَمْرُ قَوْمِكَ يَأْخُذُ وَإِلَّا حَسْبُهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ

قوم کو حکم سنادو کہ انہیں سے اچھی اچھی باتوں کو اختیار کر لین غمغریب میں تم کو نافرمانوں کا مکان

الْفٰسِقِينَ ۝ سَأَصْرَفُ عَنْ آيَتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ

دکھلا دوں گا غمغریب میں اپنی نشانیوں سے اُن لوگوں کو پش دوں گا جو

فِي الْأَرْضِ بغيرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كِلَآئَةً لَا يُؤْمِنُوا

زمین پر ناق حق تکبر کیا کرتے ہیں اور اگر وہ ہر ایک نشانی کو دیکھ بھی لیں گے تو بھی اُسپر ایمان

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَذَعَرْتَهُ يَذَّكَّرُ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عَلَمٌ سَلِيمٌ  
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَذَعَرْتَهُ يَذَّكَّرُ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عَلَمٌ سَلِيمٌ  
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَذَعَرْتَهُ يَذَّكَّرُ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عَلَمٌ سَلِيمٌ  
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَذَعَرْتَهُ يَذَّكَّرُ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عَلَمٌ سَلِيمٌ  
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَذَعَرْتَهُ يَذَّكَّرُ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عَلَمٌ سَلِيمٌ  
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَذَعَرْتَهُ يَذَّكَّرُ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عَلَمٌ سَلِيمٌ  
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَذَعَرْتَهُ يَذَّكَّرُ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عَلَمٌ سَلِيمٌ  
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَذَعَرْتَهُ يَذَّكَّرُ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عَلَمٌ سَلِيمٌ  
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَذَعَرْتَهُ يَذَّكَّرُ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عَلَمٌ سَلِيمٌ  
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَذَعَرْتَهُ يَذَّكَّرُ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عَلَمٌ سَلِيمٌ





الْغَضَبِ أَخَذَ الْأَلْوَحَ وَفِي سَخَطَهَا هُدًى قًا

تو انہوں نے لوحین اٹھالین اور اُسکے سنون میں ان لوگوں کے لئے ہدایت

رَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْتَابُونَ ۝ وَاخْتَارَ

درممت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں اور سوتے تھے

مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا

اپنی قوم میں سے ستر آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لئے پھانٹ لئے پھر جب آنکو

أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتُم م

زلزلے نے آیا (تو سوتے لئے) عرض کی کہ اے میرے پروردگار اگر تو چاہتا تو انکو

مِّن قَبْلِ وَإِيَّاي أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْسُّفَهَاءُ مِنَّا ۖ

اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا کیا تو ہمیں اس کرتوت کے عوض ہلاک کرتا ہے تو ہم میں سے جو بے وقوف لوگوں کی

إِنْ هِيَ إِلَّا أَيْتَانِكَ يَنْضَلُّ بِهِنَّ مَن تَشَاءُ وَتَهْتِكُ

یہ تو تیری ہی جانب سے آزمائش ہے اسکے ذریعے جس کو چاہے تو تیری ہدایت سلب کرے اور جسے

مِّن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ

تو چاہے ہدایت فرما دے تو ہی ہمارا مالک ہے پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور

أَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝ وَكُتِبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا

تو سب سے اچھا سمجھنے والا ہے اور اس دنیا میں ہمارے لئے خوبی لکھی ہے

حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عِدَايَ

اور آخرت میں (جنت) یقیناً ہے تیرے (ہی) حضور میں تو سبکی جو (خدا تبارک نے)

أَصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

فرمایا کہ میں اپنا عذاب تو جسے چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں اور رحمت میری ہر چیز کو حاوی ہے

فَسَاكِتًا الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

پس عقرب میں ان لوگوں کے لئے جو ڈرتے رہتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ قَالَ لِمَلَائِكَةِ اللَّهِ مَاذَا تَرَوْنَ قَالُوا نَرُوهُ كَمَا نَرُوكَ قَالَ فَمَا تَدْعُونَ قَالُوا نَدْعُوهُ نَبِيًّا وَرَسُولًا قَالَ فَمَا تَدْعُونَ قَالُوا نَدْعُوهُ نَبِيًّا وَرَسُولًا قَالَ فَمَا تَدْعُونَ قَالُوا نَدْعُوهُ نَبِيًّا وَرَسُولًا

خداوند نے انسان کو پیدا کیا تو فرمایا کہ ملائکہ! تم نے اس کو کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جیسا کہ آپ کو دیکھا ہے۔ فرمایا کہ تم اس کو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ فرمایا کہ تم اس کو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔

تو تیری ہی جانب سے

اور اس دنیا میں ہمارے لئے خوبی لکھی ہے اور آخرت میں (جنت) یقیناً ہے تیرے (ہی) حضور میں تو سبکی جو (خدا تبارک نے) فرمایا کہ میں اپنا عذاب تو جسے چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں اور رحمت میری ہر چیز کو حاوی ہے

Handwritten notes at the top of the page, including the page number 260 and the title 'قال الملائكة'.

قال الملائكة ۲۶۰ الاعراف

وَالَّذِينَ هُمْ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ  
 الرِّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا  
 عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ  
 الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ  
 إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
 بِهِ وَعِزُّوا بِرُوحِهِ وَانصُرُوهُ وَاتَّبِعُوا التَّوْرَةَ الَّتِي  
 أَنْزَلَ مَعَهُ لَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا  
 النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ  
 مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي  
 وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي  
 يُرْسِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ

Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary on the verses.

Vertical handwritten notes on the right side of the page, providing detailed commentary and explanations for the verses.

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

خدا اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے۔ اور اسی کی پیروی کرو تاکہ تم (بھی) ہدایت یافتہ ہو جاؤ

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٍ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ

اور قوم موسیٰ میں سے ایک گروہ (بھی) تھا جو راہ حق بتلاتے تھے اور حق کے بموجب

يَعْبُدُونَ ۝ وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ أَسْبَابًا

فیصلے کیا کرتے تھے اور ہم نے انکو (یعنی قوم موسیٰ کو) بارہ گھرانوں میں گروہ گروہ کر کے تقسیم

أَمْمَاءَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقِنَهُ قَوْمُهُ

کر دیا تھا اور موسیٰ کی طرف جب اُسکی قوم نے اُسے پانی مانگا ہے یہ وہی بھی

إِنَّا ضَرْبُ بَعْضِكُمُ الْآخَرَ فَانجِسْتُمُوهُ

کہ تم ہتھیار پر اپنا عصا مارو پس اُس سے

اثْنَا عَشَرَ عِيقًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنثَىٰ مِمَّا

بارہ چٹھے پہلے کہ ہر گروہ اپنے اپنے چٹھے کو خوب پہچانتا تھا

وَوَضَعْنَا عَلَىٰ غَمَامٍ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّانَ

اور ہم نے اُن پر بادل سے سایہ کیا تھا اور اُن پر من و سلوے نازل کیا تھا (اور اُن سے)

وَالسَّلْوَىٰ كُلُّوْا مِنْ طَيْبِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا

یہ کھدیا تھا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں اُنہیں سے کھاؤ پیو اور اُنہوں نے

ظَلَمُوا نَآءُ وَلٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ وَإِذْ

ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا لیکن اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے اور (اسوقت کو)

قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ

یاد کرو) جبکہ اُن سے یہ کہا گیا کہ اس گاؤں میں آباد ہو اور اُن میں سے جہاں جہاں تمہارا بھی

سُتِمْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

چاہے کھاؤ (پیو) اور لفظِ حطہ اپنی زبان پر جاری کرو اور اس دروازے میں بھڑکتے ہوئے داخل ہو

یہاں سے اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اسی کی پیروی کرو تاکہ تم (بھی) ہدایت یافتہ ہو جاؤ

اور وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو وحی کے ذریعے اپنے لوگوں کو سکھایا ہے اور ان کو اپنی قوموں کے لیے ہدایت کی راہ بتلائی ہے اور ان کو اپنی قوموں کے لیے ہدایت کی راہ بتلائی ہے اور ان کو اپنی قوموں کے لیے ہدایت کی راہ بتلائی ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہاں سے اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اسی کی پیروی کرو تاکہ تم (بھی) ہدایت یافتہ ہو جاؤ



مذہب کے اہل ہادی ہزار تھے جن میں مرتدوں سے زیادہ تھے اور پندرہ ہزار شہداء تھے۔ ۱۲

قال اللہ

تَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْحُسَيْنِينَ ۝ فَبَدَّلَ  
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ  
 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا  
 يظلمون ۝ وَسَأَلَهُمُ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ  
 حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذ تَأْتِيهِمْ  
 حِثَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمًا لَا يَسْبِتُونَ  
 لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْؤُهُمْ بِمَا كَانُوا  
 يَفْسُقُونَ ۝ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ  
 قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا  
 قَالُوا مَعذِرَةٌ أَلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ فَلَمَّا  
 تَسَوَّا مَا ذُكِّرُوا بِهِ انجبتنا الذين ينهون عن

مذہب کے اہل ہادی ہزار تھے جن میں مرتدوں سے زیادہ تھے اور پندرہ ہزار شہداء تھے۔ ۱۲

تغفیر لکم خطیئتکم سنازید الحسینین ۝ فبدل

الذین ظلموا منهم قولاً غیر الذی قیل لہم

فارسلنا علیہم رجزاً من السماء بما کانوا

یظلمون ۝ وسألہم عن القریۃ الّتی کان

حاضرۃ البحر اذ یعدون فی السبت اذ تاتیہم

حیثانہم یوم سبتہم شرعاً و یوما لا یسبتون

لا تاتیہم کذلک نبؤہم بما کانوا

یفسقون ۝ واذ قالت امۃ منہم لِمَ تعظون

قوما اللہ مہلکھم اومعذبھم عذابا شدیداً

قالوا معذرة الی ربکم ولعلہم یتقون ۝ فلما

تسوا ما ذکروا بہ انجبتنا الذین ینہون عن

مذہب کے اہل ہادی ہزار تھے جن میں مرتدوں سے زیادہ تھے اور پندرہ ہزار شہداء تھے۔ ۱۲

السُّوءِ وَآخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَ بَئِيسٍ مَّا

جو بدی سے باز رکھا کرتے تھے اور انکو نافرمانی کیا کرتے تھے جو انکی نافرمانیوں کو جسے عذاب

كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوا عَنْهُ

میں گرفتار کر لیا بھوجب انہوں نے اس سے سرکشی کی جسے انکو منع کیا گیا تھا تو

قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۝ وَلَا تَأْذَن

ہم نے انہیں کہہ دیا کہ (اب تم) ذلیل بندر بن جاؤ اور (اسوقت کو یاد کرو) جبکہ تمہارے

رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ

پروردگار نے آگاہ کر دیا تھا کہ ان پر قیامت تک کے لئے کسی ایسے کو ضرور مقرر کرتا ہوگا

لِيُؤْمِرَهُمْ بِسُوءِ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعٌ

جو انکو سخت عذاب دیا کریگا بیشک تمہارا پروردگار بہت جلد عذاب

الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَقَطَعْنَا فِي

دینے والا ہے اور بیشک وہ بڑا بخشنے والا (اور) رحم کرنے والا ہے اور چٹائے گروہ کے گروہ

الْأَرْضِ أُمَّمًا مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ

زمین میں متفرق کردئے کچھ تو انہیں سے نیک ہیں اور کچھ انکے

ذَلِكَ وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ

خلاف اور ہمچے نیکوں اور بدیوں سے انکی آزمائش کی تاکہ وہ

يَرْجِعُونَ ۝ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا

باز رہیں پس انکے بعد انکے قائم مقام ایسے نالائق ہوئے جو کتاب کے تو

الْكِتَابِ بِأَخْذٍ وَنَعَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ زَقَا

وارث بنے (اور) اس حقیر دنیا کی پوچھی کو پتے جاتے ہیں اور

يَقُولُونَ سَيَغْفِرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ

یہ کہتے جاتے ہیں کہ مغفرت ہمارے لئے جائیگے حالانکہ ایسی ہی پوچھی اگر انکو دہراؤ

میں سے انکے لئے عذاب ہے اور انکو نافرمانی کیا کرتے تھے جو انکی نافرمانیوں کو جسے عذاب میں گرفتار کر لیا بھوجب انہوں نے اس سے سرکشی کی جسے انکو منع کیا گیا تھا تو ہم نے انہیں کہہ دیا کہ (اب تم) ذلیل بندر بن جاؤ اور (اسوقت کو یاد کرو) جبکہ تمہارے پروردگار نے آگاہ کر دیا تھا کہ ان پر قیامت تک کے لئے کسی ایسے کو ضرور مقرر کرتا ہوگا

شکل

میں سے انکے لئے عذاب ہے اور انکو نافرمانی کیا کرتے تھے جو انکی نافرمانیوں کو جسے عذاب میں گرفتار کر لیا بھوجب انہوں نے اس سے سرکشی کی جسے انکو منع کیا گیا تھا تو ہم نے انہیں کہہ دیا کہ (اب تم) ذلیل بندر بن جاؤ اور (اسوقت کو یاد کرو) جبکہ تمہارے پروردگار نے آگاہ کر دیا تھا کہ ان پر قیامت تک کے لئے کسی ایسے کو ضرور مقرر کرتا ہوگا



لَا تَمَّا أَشْرَكَ أَبَاؤُا نَامِن قَبْلُ وَكَانَ ذُرِّيَّةً مِّنْ

پلے ہی سے تو ہمارے باپ دادا شرک کیا کرتے تھے اور ہم تو انکے بعد انکی اولاد میں سے

بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ۝ وَكَذَلِكَ

تھے تو کیا تو باطل کی بنیاد ڈالنے والوں کے فعل کے سبب ہمیں بھی ہلاک کئے دیتا ہے اور اسی معنی کا

نَقِصْلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ وَأَسْأَلُ

ہم ان آیات کو کھول کر بیان کرنے میں اور اسلئے (بھی) کہ وہ (اپنے افعال سے) باز آئیں اور انکو اس شخص

عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ

کی خبر سناو جو کورے اپنی آیتیں دی تھیں پھر وہ اُنسے الگ ہو گیا پھر شیطان اُسکے

الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ

پہچھے آگے پس وہ گمراہوں میں سے ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اُنہی آیتوں کے

بِهَاءٍ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۝

سبب اُسکو بلند مرتبہ دیتے لیکن وہ خود سے زمین کی طرف جھک پڑا اور اپنی خواہش نفسانی کا پیرو ہو گیا

فَسْأَلُهُ كَيْفَ كَسَلَهُ الْكَلْبُ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ

پس اُسکی مثل کئے کی سی مثل ہوگئی کہ اگر تم اُسپر حملہ کرو تو بھی زبان نکالے اور اُسے

تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ ۝ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا

بے حمیوں رکھو تب بھی زبان نکالے یہ ان لوگوں کی سی مثل ہوئی جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے

بِآيَاتِنَا ۝ فَاقْصِصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

ہیں پس تم یہ تھے بیان کرتے رہو تاکہ وہ (کچھ تو) فکر کریں

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ

ان لوگوں کی مثل بہت ہی بڑی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر

كَانُوا يُظْلَمُونَ ۝ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ۝

ظلم کرتے رہے جسے خدا ہدایت دے پس وہی ہدایت یافتہ ہے

Handwritten marginal notes in Urdu script, including the word 'بکسر' written vertically.

Handwritten marginal notes at the top of the page.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page.



الَّذِينَ يَرْمِئُونَ بِالْحِجَابِ رَاغِبِينَ إِلَى الْمَمَاتِ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ يَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ مُنْجِيهِمْ غَافِلِينَ ۗ

گھلا ڈرا بیوا لہے کیا انہوں نے آسمانوں کی اوز زمین کی

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَالٍ قَالُوا

سلطنت میں اور جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں انہیں غور نہیں کیا اور اس بات میں

أَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَالٍ قَالُوا

کہ شاید انکی اجل قریب ہی آگئی ہو پس اس (قرآن)

حَالٍ قَالُوا بَعْدَ مَا يَوْمُنَّوْنَ ۚ مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۗ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۚ

کے بعد وہ اور کونسی بات پر ایمان لائینگے جس خدا تو قیامت ہدایت سلب کرے پس اسکا

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۚ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا الْغَيْثُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

کوئی راہبر نہیں اور وہ انکو انہی کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ (خود) سرگردان رہیں

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۚ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا الْغَيْثُ عِنْدَ اللَّهِ

لوگ تم سے قیامت کی بابت سوال کرتے ہیں کہ اسکا معین وقت کونسا ہے تم کہدو کہ

ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا الْغَيْثُ عِنْدَ اللَّهِ

اسکا علم تو میرے پروردگار ہی کے پاس ہے وہ خود ہی اسے ہو جائیگے وقت پر اسکو ظاہر

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۚ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا الْغَيْثُ عِنْدَ اللَّهِ

کہو گیا وہ آسمانوں میں اور زمین میں سخت گہری ہوگی تمکو بجایک آئیگی

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۚ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا الْغَيْثُ عِنْدَ اللَّهِ

تم سے تو وہ اس طرح پوچھتے ہیں گو یا تم ہی اسے راز دار ہو تم یہ کہدو کہ

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۚ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا الْغَيْثُ عِنْدَ اللَّهِ

اسکا علم تو خدا ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۚ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا الْغَيْثُ عِنْدَ اللَّهِ

کہہ کہدو کہ میں اپنی ذات کے لئے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی نقصان کا سو اسے جو اللہ کو مستحق

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ يَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ مُنْجِيهِمْ غَافِلِينَ ۗ

اور جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں انہیں غور نہیں کیا اور اس بات میں کہ شاید انکی اجل قریب ہی آگئی ہو پس اس (قرآن) کے بعد وہ اور کونسی بات پر ایمان لائینگے جس خدا تو قیامت ہدایت سلب کرے پس اسکا کوئی راہبر نہیں اور وہ انکو انہی کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ (خود) سرگردان رہیں لوگ تم سے قیامت کی بابت سوال کرتے ہیں کہ اسکا معین وقت کونسا ہے تم کہدو کہ اسکا علم تو میرے پروردگار ہی کے پاس ہے وہ خود ہی اسے ہو جائیگے وقت پر اسکو ظاہر کہو گیا وہ آسمانوں میں اور زمین میں سخت گہری ہوگی تمکو بجایک آئیگی تم سے تو وہ اس طرح پوچھتے ہیں گو یا تم ہی اسے راز دار ہو تم یہ کہدو کہ اسکا علم تو خدا ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہہ کہدو کہ میں اپنی ذات کے لئے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی نقصان کا سو اسے جو اللہ کو مستحق

مثال

اور جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں انہیں غور نہیں کیا اور اس بات میں کہ شاید انکی اجل قریب ہی آگئی ہو پس اس (قرآن) کے بعد وہ اور کونسی بات پر ایمان لائینگے جس خدا تو قیامت ہدایت سلب کرے پس اسکا کوئی راہبر نہیں اور وہ انکو انہی کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ (خود) سرگردان رہیں لوگ تم سے قیامت کی بابت سوال کرتے ہیں کہ اسکا معین وقت کونسا ہے تم کہدو کہ اسکا علم تو میرے پروردگار ہی کے پاس ہے وہ خود ہی اسے ہو جائیگے وقت پر اسکو ظاہر کہو گیا وہ آسمانوں میں اور زمین میں سخت گہری ہوگی تمکو بجایک آئیگی تم سے تو وہ اس طرح پوچھتے ہیں گو یا تم ہی اسے راز دار ہو تم یہ کہدو کہ اسکا علم تو خدا ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہہ کہدو کہ میں اپنی ذات کے لئے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی نقصان کا سو اسے جو اللہ کو مستحق



قال المفسر  
 ۲۷۸  
 الاعراف

وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ  
 اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی خیر و خوبی اکٹھی کر لیتا  
 وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ  
 اور خرابی تو مجھ کو جو بھی نہ جاتی الامین تو ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں فقط ایک نذیری  
 يُؤْمِنُونَ ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
 وژدہ الہ اور ذرائع الہ ہوں وہ وہی تو ہے جسے تم سب کو ایک ذات سے پیدا کیا اور اسی کی  
 وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا  
 بچی ہوئی (مٹی) سے اُسکا جوڑا بنا دیا کہ اُس سے مانوس ہو پس جسوقت مرد اُس سے  
 حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ  
 ہم صحبت ہوا تو عورت کو ملکا ساحل رہا کہ اُس نسبت طبعی چھرتی رہی پھر جب اُس حمل کا وزن بڑھا  
 دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ  
 تو دونوں نے اللہ اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اگر تو ہم کو صحیح و سالم (بچہ) عنایت کرے گا تو ہم ضرور  
 الشَّاكِرِينَ ۝ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ  
 یہ شکر گزار ہونگے پھر جسوقت اُس نے اُنکو صحیح و سالم (بچہ) دیا تو جو کچھ دیکھا اُسین انہوں نے  
 فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝  
 اسی خدا کا شریک ٹھہرایا حالانکہ خدا ان چیزوں سے بڑے ہو چکا اُسکا شریک ٹھہراتے ہیں  
 اَيُّ شُرَكَائِهِمْ كُنَّ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝  
 کیا اُنکو شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود ہی پیدا کئے جاتے ہیں  
 وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرٌ وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ  
 اور نہ وہ ان (شریک ٹھہرائے والوں) کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ذات ہی کی مدد کرتے ہیں  
 وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يُتَّبِعُوكُمْ سِوَاءَ  
 اور اگر تم انکو راہِ راست کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہ کریں گے تمہارے سوا (دوئی)

مع  
 عندنا لثنا خير  
 ۱۲

شکر

قال المفسر  
 الاعراف



عَلَيْكُمْ اَدْعُوهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَادِقُونَ ۝ اِنَّ

برابر ہیں خواہ تم انکو بلاؤ یا خاموش ہو رہو بالیقین

الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ

تم خدا کے سوا جنکو پکارتے ہو وہ تم ہی جیسے بندے ہیں

فَاَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

پس انکو پکارو (اور) اگر تم سچے ہو تو چاہئے کہ وہ تمہارا جواب دیں

اَلِهَمَّ اَرْجُلٌ يَّمْشُونَ بِهَا زَا مَلَهُمْ اَيْدٍ يَّبِطُّشُونَ

کیا انکے پاؤں ہیں جنسے وہ چلتے ہیں یا انکے ہاتھ ہیں جنسے وہ پڑتے ہیں

بِهَازَا مَلَهُمْ اَعْيُنٌ يَّبْصُرُونَ بِهَا زَا مَلَهُمْ اَذَانٌ

یا انکی آنکھیں ہیں جنسے وہ دیکھتے ہیں یا انکے کان ہیں

يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ اَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ

جنسے وہ سنتے ہیں کہو کہ تم اپنے شریکوں کو بلاؤ پھر

كَيْدُونَ فَلَا تَنْظُرُونَ ۝ اِنَّ رَبِّيَ اللّٰهُ الَّذِي

بجھ سے چالیں چلو اور مجھے ہمت نہ دو بیشک میرا حقیقی (دہی) اللہ ہے جنسے یہ

نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ

کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک بندوں کو دوستی رکھتا ہے اور انکے سوا

تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيبُوْنَ تَصْرٰكُمُ

تم جن کو پکارتے ہو وہ نہ تمہاری ہی مدد کریگے

وَلَا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ وَاِنْ تَدْعُوهُمْ لِيَلْمَنَّ

اور نہ اپنی ہی جانوں کو بچائینگے اور اگر تم انکو راہ راست کی طرف بلاؤ گے تو

لَا يَسْمَعُوْا وَاَوْ تَرٰهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ

وہ کچھ نہ سنیگے اور تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ

مثلاً

مفسرین نے بھی بڑھ کر تفسیر فرمادی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی لکھے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی لکھے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی لکھے ہیں۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَئِمَّا تَقُولُ إِنَّ إِلَهَنَا لَوَاحِدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّا جَعَلْنَا السَّمَاءَ زُجْجًا وَجَعَلْنَا الْغُيُوثَ سُنُبًا وَمَا فِيهَا إِلَّا عِزَّةٌ تُبَدَّلُ لِمَا تَشَاءُونَ لِيُذَكَّرَ أَتَى الْقَوْمَ لَئِيمٌ

قال للسلام ۲۸۰ الاعراف

لَا يَصِرُونَ ۝ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض

عن الجاهلین ۝ وما یزغک من الشیطان نزع

فاستعذ بالله إن الله سميع عليم ۝ إن الذین

اتقوا إذ أمسهم طیف من الشیطان تذکروا

فإذ هم مبصرون ۝ وإخوانهم یمدوهم

فی الغی ثم لا یقصرون ۝ وإذ الم تاتهم بایة

قالوا لا اجتبتنا قل إنما تبع ما یوحی الی

من ربی ۝ هذا ابصار من ربکم وهدی ورحمة

لقوم یؤمنون ۝ وإذ أقرئ القرآن فاستمعوا له

وأنصتوا لعلکم ترحمون ۝ وأذکر ربک فی

نفسک تضرعاً وخیفه ۝ ودون الجهر من القول

کفریہ و زاری کے ساتھ اور ڈرتے ڈرتے صبح و شام یاد کر لے رہنا بجا کر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی لکھے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی لکھے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی لکھے ہیں۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَئِمَّا تَقُولُ إِنَّ إِلَهَنَا لَوَاحِدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّا جَعَلْنَا السَّمَاءَ زُجْجًا وَجَعَلْنَا الْغُيُوثَ سُنُبًا وَمَا فِيهَا إِلَّا عِزَّةٌ تُبَدَّلُ لِمَا تَشَاءُونَ لِيُذَكَّرَ أَتَى الْقَوْمَ لَئِيمٌ

بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغٰفِلِينَ ۝ اِنَّ

نہیں اور غافلوں میں سے نہ ہونا بیشک

الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ

جو لوگ تمہارے پروردگار سے قربت رکھتے ہیں وہ اسکی عبادت کرنے سے اگر ذمہ نہیں اور

يَسْجُدْنَ لَهُ وَاِلٰهًا يَسْبُدُونَ ۝

اسکی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اسی کو سجد کیا کرتے ہیں

سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ مَكْنِيَّةٌ وَهِيَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ اٰيَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رحمن ورحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَ

(اے رسول) لوگ تم سے مال غنیمت کا حکم دریافت کرتے ہیں تم کہدو کہ مال غنیمت اللہ و

الرَّسُوْلِ ؕ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوا اِذَاتَ بَيْتِكُمْ

رسول کا ہے پس تم اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس کے جھگڑوں کی اصلاح کرتے رہو

وَاطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو

تَمَّا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ

(کامل) مومن تو صرف وہی ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو انکے دل (اسکی ہیبت و حلال

قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا نَلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَةٌ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا

دل جاتے ہیں اور جب اسکی آیتیں انپر چھی جاتی ہیں انکے ایمان کو بڑھادیتی ہیں

وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ

دوہ صرف اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں جو (بقاعدہ) نماز پڑھا کرتے ہیں

Handwritten marginal notes in Urdu on the left side of the page, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten marginal notes in Urdu, possibly a title or section header, written vertically.



Handwritten marginal notes in Urdu at the bottom of the page, continuing the commentary.

اور جو کچھ ہے انکو یاد رکھو اور اس میں ہماری راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں وہی لوگ

الانفصال

قال المصنف

الصَّلَاةُ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ

مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۚ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ

مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

لَكُرْهُونَ ۚ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ

لَهُمْ أَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۚ وَإِذْ

يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَ

تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَ

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ

الْكَافِرِينَ ۚ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ

الْجَاهِلُونَ ۚ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ

بِأَنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّؤْمِنِينَ ۚ

بِأَنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّؤْمِنِينَ ۚ

اور جو کچھ ہے انکو یاد رکھو اور اس میں ہماری راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں وہی لوگ  
 حقیقی مومن ہیں انہی کے لئے ان کے پروردگار کے پاس درجے ہیں اور  
 بخشش ہے اور آبرو کی روزی ہے جیسا کہ تمہارے پروردگار نے تمکو تمہارے  
 گھر سے ایک امر حق کے لئے نکالا تھا حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ اسکو ناپسند  
 کر رہا تھا یہ لوگ جسے حق کے بارے میں جھگڑاتے ہیں بعد اس کے حق کھل چکا ہے  
 گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں اور اسوقت کو  
 یاد کرو جبکہ خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہارے ہاتھ لگیگا اور تم  
 یہ چاہتے تھے کہ کلمہ شان و شوکت والا تمہارے ہاتھ لگے اور  
 اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات کے ذریعہ سے حق کو حق ثابت کر دے اور کافروں کی نسل  
 منقطع کر دے تاکہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل گو مجرموں کو  
 بڑا لگے (اسوقت کو یاد کرو) جبکہ تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے اور تمہیں کچھ بوجھ  
 اور جو کچھ ہے انکو یاد رکھو اور اس میں ہماری راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں وہی لوگ  
 حقیقی مومن ہیں انہی کے لئے ان کے پروردگار کے پاس درجے ہیں اور  
 بخشش ہے اور آبرو کی روزی ہے جیسا کہ تمہارے پروردگار نے تمکو تمہارے  
 گھر سے ایک امر حق کے لئے نکالا تھا حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ اسکو ناپسند  
 کر رہا تھا یہ لوگ جسے حق کے بارے میں جھگڑاتے ہیں بعد اس کے حق کھل چکا ہے  
 گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں اور اسوقت کو  
 یاد کرو جبکہ خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہارے ہاتھ لگیگا اور تم  
 یہ چاہتے تھے کہ کلمہ شان و شوکت والا تمہارے ہاتھ لگے اور  
 اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات کے ذریعہ سے حق کو حق ثابت کر دے اور کافروں کی نسل  
 منقطع کر دے تاکہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل گو مجرموں کو  
 بڑا لگے (اسوقت کو یاد کرو) جبکہ تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے اور تمہیں کچھ بوجھ

اور جو کچھ ہے انکو یاد رکھو اور اس میں ہماری راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں وہی لوگ

اِنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِنْ الْمَلَكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۝ وَمَا

دیا تھا کہ میں تمہاری ہزار فرشتوں سے مدد کروں گا جو تمہاری پشتی پر ہونگے اور اس کو خواہ

جَعَلَهُ اللهُ اِلَّا بَشْرًا وَّلِتَطْمِئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۝

نے مقرر اسی غرض سے کیا تھا کہ تمہارے لئے ایک بشارت ہو نیز اسلئے کہ تمہارے دل سے مطمئن ہو جائیں

وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ۝

حالانکہ حقیقی مدد سوائے اللہ کے پاس کے اور کہیں ہوتی ہی نہیں بیشک ہر ذرہ ہمت (اور) حکمت والا ہے

اِذْ يَغْشٰكُمْ النُّعَاسُ اٰمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ

(اسوقت کو یاد کرو) جبکہ تمکو امن دینے کے لئے اُسے نیند کو تمپر مسلط کیا اور آسمان سے تم پر

مِّنَ السَّمَاءِ مَآءٌ لِّيَطَهِّرَ كُمْ بِهٖ وَيَذْهَبَ عَنْكُمْ

پانی اتارا کہ اُس سے تم اپنے کو پاک کرو اور تاکہ شیطان کی نجاست کو تم سے

رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَّلِيَرْبِطَ عَلٰی قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهٖ

دور کرے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور تمہارے قدم اُس سے

الْاَقْدَامَ ۝ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّي مَعَكُمْ

جما رہے (اسوقت کو یاد کرو) جبکہ تمہارا پروردگار فرشتوں کو وحی فرما رہا تھا کہ میں

فَتَّبِعُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَآلِفِيْ فِى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ

تمہارے ساتھ ہوں پس تم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ثابت قدم رکھو عنقریب میں ان لوگوں کے

كَفَرُوْا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا

دلوں میں جو کافر ہو گئے ہیں رعب ڈالو تمکس تم انکی گردنوں پر اور انکی پور پور پر

مِنْهُمْ كُلِّ بَنٰنٍ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُوْا اللّٰهَ وَ

خبر میں لگاؤ یہ اس لئے کہ وہ اللہ اور اُسکے رسول کے مقابل

رَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۙ وَاِنَّ اللّٰهَ

جہئے اور جو اللہ اور اُسکے رسول کا مقابل بنے گا میں اللہ

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses. The text is dense and covers the entire left margin.

Handwritten marginal notes at the top of the page, above the header.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, below the main text.





كثرت وان الله مع المؤمنين يا ايها الذين

جس حال میں کہ اللہ مومنوں کا ساتھ دینے والا ہے اے ایمان

امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم

لائو الو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جس حال میں کہ تم سنے ہو اس سے

تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا

روگردان ہو اور ان لوگوں کے مانند مت بنو جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا

وهم لا يسمعون ان شر الذوات عند الله

حالانکہ وہ سنے کچھ نہیں بیشک اللہ کے نزدیک سب سے بدتر جانور وہ ہیں جو

الضم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله

بہرے گوئے ہیں (اور) جو کچھ نہیں سمجھتے اور اگر اللہ کو آئین کسی قسم

فيهم خيرا لا سمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم

کی خیر دینی ہو نیک علم ہوتا تو انکو سناوتا اور اگر وہ انکو سوائے تو وہ اس سے فرور گردان

معرضون يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله و

پوکر آئے بھاگین اے ایمان لائیو الو جو وقت رسول تمکو ایسے کام کی طرف

للسؤل اذا دعاكم لما يحببكم واعلموا ان الله

بلائین جس میں تمہاری زندگی ہے تو اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مان لو اور یہ

يحول بين امرء وقلبه وانه اليه محشرون واتقوا

جان کو فرور اللہ آدمی کے اور اس کے دل کے مابین چالے اور یہ کہ تم سب کی حضور میں جمع کے جاؤ گے اور اس وقت

فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة

سے ڈرے ہو جو خصوصیت کے ساتھ کچھ انہی لوگوں پر نہ پڑے گا جو تم میں سے ظالم ہیں

واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا الذا

اور یہ جان لو کہ اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے اور (اس وقت کو یاد کرو) جبکہ تم اس

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ', 'ایمان لائیو الو', and 'اللہ کے ساتھ ساتھ'. The notes are written in a dense, cursive style, often overlapping the main text.



Handwritten notes at the top of the page, including the word 'الانفصال' (Al-Infisal) on the left and 'قال المصنف' (Qal al-Musnaf) on the right. The central part contains the number '۲۸۶' (286) inside a decorative circle.

الانفصال ۲۸۶ قال المصنف

**أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعِفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ**  
 سر زمین میں گنتی میں کم اور بے بس تھے اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ  
**يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَكُمُ وَأَيْدِيكُمْ بِنَصْرِهِ وَرِزْقِكُمْ**  
 کہیں لوگ تمکو چک کر نہ لیجائیں اور خدا نے تمکو ٹھکانا بھی دیا اور اپنی نصرت کے ذریعہ تمہاری کھپ  
**مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ**  
 بھی کی اور پاک چیزوں سے تمکو رزق بھی عطا کیا تاکہ تم شکر گزار ہو اے ایمان لایوالو  
**آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ**  
 نہ تو اللہ اور رسول کی خیانت کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں  
**وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ**  
 خیانت کرو اور یہ جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش  
**فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ**  
 ہیں اور بیشک بڑا اجر خدا ہی کے پاس ہے اے ایمان  
**آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ**  
 لایوالو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے واسطے ایک حق و باطل کی جانچ مقرر  
**سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝**  
 فرمایا گا اور تمہاری بدیہان تم سے دور کر دے گا اور تمکو بخیر لگا اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے  
**وَلَا ذِمَّةَ لِكُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِلَيْتُهُمْ أَوْ يَقْتُلُوكَ**  
 اور (اے رسول) اس وقت کو یاد کرو جبکہ کفار تم سے چال چل رہے تھے کہ تمکو قید کر دیں یا قتل کر دیں  
**أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ**  
 یا تمکا لہرین وہ تو اپنی چال چل رہے تھے اور خدا تمہارے برہے لینے پر آمادہ تھا اور اللہ سب سے بہتر  
**الْمُكْرِمِينَ ۝ وَإِذْ أَسْأَلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قَالُوا اقْدِمْ عَلَيْنَا**  
 بدہے لینے والا ہے اور جو وقت ہماری آئینہ آئیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تم سے کچھ

۲۸۶

Handwritten marginal notes on the right side of the page. The notes are written in a cursive script and appear to be commentary or explanations related to the main text. Some of the visible text includes phrases like 'فان قلت' (And you say), 'والجواب' (The answer), and 'والله اعلم' (Allah knows best). The notes are densely packed and cover a significant portion of the right margin.

Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary or providing additional context. The text is written in a similar cursive style to the marginal notes on the right.

لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ

اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسے مانند کہلیں یہ تو مرنے والے لوگوں کی کہانیاں

الْأَوَّلِينَ ۝ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ

ہیں اور (اسوقت کو یاد کرو) جبکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ اگر یہ امر حق ہے

الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا جُرُودًا مِنَ السَّمَاءِ

اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا

أَوْ ابْتِئَابَ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ

یا ہم کو کوئی دردناک عذاب دے اور اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ جس حال میں تم

وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ لِيَسْتَغْفِرُوا

آن میں موجود ہو وہ انکو عذاب دے اور نہ اللہ انکو اس حال میں عذاب دے تاکہ وہ استغفار کرتے رہیں

وَمَا لَهُمْ آلَافٌ يَدْعُونَ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ لَئِنْ كَانُوا

اور اللہ انکو عذاب کیوں نہ دے جس حال میں کہ وہ مسجد الحرام سے

الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ ۝ إِنْ أَوْلِيَاءُ

روکنے ہیں حالانکہ وہ خود اسے سستی نہیں ہیں اس کے سستی تو صرف

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا كَانَ

شرک سے بچنے والے ہیں بلکہ ان مشرکوں میں اکثر اس بات کو نہیں جانتے اور بیت اللہ کے پاس

صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْأَمْكَاءِ وَتَصَدِيقَهُمْ قَوْلًا

انکی نماز سوائے سبئیان جانے اور تالیان بخارنے کے اور کچھ بھی نہ تھی پس جیسے (جیسا)

عَذَابٍ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

کفر تم کیا کرتے تھے ویسے ہی اب عذاب (بھی) اچھو بیشک جو لوگ کافر ہو گئے

يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

وہ اپنے مال اس غرض سے خرچ کرتے ہیں کہ راہ خدا سے روکیں

Handwritten marginal notes in Urdu script surrounding the main text, providing commentary and explanations.

بیت

